

منسلکہ II  
ضابطہ 3-722

عزیز والد یا والدہ/سرپرست:

اس خط کا مقصد ہے آپ کو اس بات کی جانکاری فراہم کرنا ہے کہ ورجینیا کوڈ § 22.1-254.1 کے مطابق والدین کی طرف سے فراہم کردہ گھر پر تدریس کے تحت طلبا کے مکمل کردہ کورسوں کی جانچ میں پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک سکولز (PWCS) کون سے طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں۔

کورس، جس کے لئے ہائی سکول گریجویشن کی نسبت سے کریڈٹ کی درخواست کی جائے گی، اس کی مناسب سکول سٹاف کے ذریعہ جانچ کی جائے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ طالب علم کو مضمون میں مہارت حاصل ہے۔ یہ جانچ عمومی طور پر طالب علم کے گھر پر تدریس کے دوران کئے گئے کام کے جائزہ پر اور/یا سکول کے عملہ کے لیے گئے ٹیسٹ پر مبنی ہو گا۔ مخصوص مضامین میں، جیسے کہ موسیقی یا آرٹ سے متعلق کورس، طالب علم کی کارکردگی جانچ کا ایک حصہ بھی ہو سکتی ہے۔ جانچ میں تعاون دینے کے لئے، والدین سے اس بات کی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ٹیسٹوں کی نقول، ورک شیٹوں، کورس کے خاکوں، درسی کتابوں اور دیگر کوئی بھی دستاویزات فراہم کریں جو طالب علم کی کارکردگیوں کی تخمینہ میں اسٹاف مدد کر سکتے ہیں۔

اگر تدریسی عملہ اس بات کا تعین کرے کہ طالب علم نے سبجیکٹ میں مہارت حاصل کر لی ہے، تو کورس کو طالب علم کی ٹرانسکرپٹ میں پاسنگ مارک "P" کے ساتھ درج کیا جائے گا۔ اس بات کو بھی نوٹ کیا جائے گا کہ کورس کو اس وقت مکمل کیا گیا تھا جب وہ گھر پر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اگر مضمون میں مہارت کی توثیق نہ ہو تو موزوں کورس (کورسز) لینے کے لیے طالب علم کے شیڈول میں مناسب رد و بدل کیا جائے گا۔

ہماری خواہش ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ کے بیٹے/بیٹی کا PWCS میں داخلہ/دوبارہ داخلہ خوشگوار طریقے سے ہو۔ اس معاملے میں آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کو اور آپ کے بیٹے/بیٹی کو PWCS میں خوش آمدید کہتے ہیں۔

پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک سکولز